

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن نے ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس کا نام باضابطہ طور پر تبدیل کر کے سابقہ میئر سوسن فینل کے نام پر رکھ دیا ہے

برامپٹن، آن (14 ستمبر 2021) – آج منعقد ہونے والی ایک تقریب کے دوران، میئر پیٹرک براؤن اور وارڈز 3 اور 4 کے ریجنل اینڈ سٹی کونسلرز مارٹن میڈیروس اور جیف بومین نے سابق میئر سوسن فینل کے اعزاز میں ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس کا نام باضابطہ طور پر تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔

سپورٹس پلیکس کا بنیادی طور پر آغاز 28 ستمبر 1997 کو ہوا تھا، جو مختلف اقسام کے رجسٹریشن کے ساتھ اور موقع پر تشریف لا کر تیراکی، اسکیٹنگ، کھیلوں اور تندرستی کے پروگراموں اور ساتھ ہی ساتھ رجسٹر شدہ ڈانس، STEM اور بچوں اور نوجوانوں کے پروگراموں کی پیشکش کرتا ہے۔

برامپٹن سٹی کونسل نے اس سنٹر کا نام سوسن فینل سپورٹس پلیکس رکھنے کی باضابطہ منظوری 30 ستمبر 2020 کو دی تھی۔ یہ تحریک ریجنل کونسلر مارٹن میڈیروس نے پیش کی تھی جبکہ اس کو ریجنل کونسلرز مائیکل پیلیسچی، پال ویسینٹے، پیٹ فورٹینی اور رووینا سینتوس نے اس کی حمایت کی تھی۔

### سوسن فینل کے متعلق

سوسن فینل نے 1988 سے 2014 تک برامپٹن سٹی کونسل میں خدمات سر انجام دی تھیں۔ اس وقت کے دوران، انہوں نے ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس کو حقیقت میں بدلنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور انہی کی قیادت میں ہی سٹی کے کچھ مشہور ترین پراجیکٹس مکمل ہوئے تھے، بشمول دی روز تھیٹر، فلاور سٹی کمیونٹی کیمپس اینڈ سینٹرز سنٹر، کیسی کیمپ بیل کمیونٹی سنٹر، برامپٹن ساکر سنٹر، گور میڈوز کمیونٹی سنٹر اور سٹی گارڈنز ری کرنیشن سنٹر اور چنگواکوسی پارک کی مرمت اور تجدید۔

انہوں نے سٹی آف برامپٹن کی جانب سے اس کوشش کی رہنمائی کی، جس کے نتیجے میں برامپٹن کے زوم بس ریپڈ ٹرانزٹ پروگرام کو حقیقت بنانے کے لیے \$200 ملین ڈالر وفاقی اور صوبائی میچنگ فنڈنگ حاصل کی گئی اور ساتھ ہی انہوں نے کامیابی سے بزرگ افراد اور سابقہ فوجیوں کے لیے رعایتی کرایوں کی وکالت کی۔ انہوں نے عبادت گاہوں کے لیے منصوبہ بندی کے اپنی نوعیت کے پہلے فریم ورک کی تیاری کی بھی رہنمائی کی، جس نے برامپٹن کو کینیڈا کی انتہائی متحرک کثیر المذاہب کمیونٹی کے طور پر بڑھنے میں مدد دی۔ فینل نے قدیم ورثے کے تحفظ میں بھی اولین کردار ادا کیا اور ایڈریا، دی کینتھ چسپولم مینشن، کو گرانے سے بچانے میں ذاتی طور پر کردار ادا کیا تھا۔ ان کی انتظامیہ کے دوران، پچھلے 25 سالوں کی نسبت زیادہ وراثتی عمارتوں کا تعین کیا گیا۔

500 رے لاسن بولیورڈ پر واقع سوسن فینل اسپورٹس پلیکس نئی اور تمام موجودہ سہولت گاہوں کی تزئین و آرائش کے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر سٹی آف برامپٹن کی پہلی زیرو کاربن عمارت بن جائے گی۔

### سوسن فینل سپورٹس پلیکس کی تزئین و آرائش کے متعلق

2019 میں سٹی آف برامپٹن نے توانائی اور گیسوں کے اخراج کو منتظم کرنے کا اپنا پہلا 2019-2024 منصوبہ شائع کیا تھا: یعنی کاربن کا زیرو اخراج۔ اس منصوبے کے تحت سٹی نے گرین ہاؤس گیس (GHG) کے اخراج میں کمی کے صوبائی اور وفاقی سطح کے اہداف کے مطابق 2030 میں 30 فیصد تک کمی اور 2050 میں 80 فیصد تک کمی کرنے کا ہدف متعین کیا تھا۔

برامپٹن کی زیادہ تر تفریحی سہولت گاہیں شہر کے سالانہ GHG اخراج کا تقریباً 50 فیصد ہیں۔ سوسن فینل اسپورٹس پلیکس کو آرائش نو کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ یہ سہولت گاہ ایک بلند درجہ GHG کے اخراج کی حامل ہے۔ اس سہولت گاہ میں موجود زیادہ تر آلات بھی اپنی متوقع کارآمد زندگی کے اختتام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ 2019 کے یوٹیلیٹی ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے یہ متعین کیا گیا تھا کہ یہ سہولت گاہ سالانہ تقریباً 1100 ٹن CO<sub>2</sub> خارج کر رہی ہے جو 238 مسافر گاڑیوں کے ذریعے پیدا ہونے والے اخراج کے برابر ہے۔

اس سہولت گاہ کے بارے میں ستمبر 2020 میں ایک فزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی گئی تھی جس میں وہ تبدیلیاں شامل تھیں جو زیرو کاربن منتقلی کے لیے درکار تھیں۔ تین مراحل پر مشتمل اس منصوبے میں سے پہلے مرحلے کو سٹی کونسل نے اپریل 2021 میں منظور کیا تھا اور اگست 2021 میں تجاویز کے حصول کی درخواست شائع کی گئی تھی۔

#### اقتباسات

"مجھے سابق میئر سوسن فینل کی خدمات اور برامپٹن کو سب کے لیے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کی ایک بہترین جگہ بنانے کے حوالے سے ان کی کاوشوں کو تسلیم کرنے پر فخر ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل میں خدمات سر انجام دینے کے 26 سال کے دوران، انہوں نے اسپورٹس پلکس کو فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، اس کے علاوہ ان کے بہت سے دیگر مشہور منصوبے بھی تھے جو آج ہماری کمیونٹی کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سابق میئر سوسن فینل نے سٹی کونسل میں اپنے دور میں بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیئے۔ ان کے دور میں برامپٹن قرض سے پاک ہو گیا تھا اور اسے AAA ریٹنگ سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے ایک حقیقی میراث چھوڑی ہے اور ہمارے شہر میں ایک نمایاں فرق پیدا کیا ہے، اور ہم ایک سہولت گاہ کا نام تبدیل کر کے ان کے نام پر رکھ کر ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔"

- مارٹن میٹیروس ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4، سٹی آف برامپٹن

"سوسن فینل اسپورٹس پلکس کا نام تبدیل کرنے کے علاوہ ایک یہ بہترین کام بھی ہو جائے گا کہ اس سہولت گاہ کی از سر نو تزئین و آرائش سے ہمارے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر یہ برامپٹن شہر میں پہلی زیرو کاربن عمارت بن جائے گی۔ سابق میئر فینل نے خواتین کی ہاکی کو اس شہر میں لانے اور برامپٹن میں کھیلوں کی ترقی اور مسلسل فروغ میں بھی ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔"

- جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈز 3 اور 4، سٹی آف برامپٹن

"اس اعتراف سے میری بے حد عزت افزائی ہوئی ہے۔ سوسن فینل اسپورٹس پلکس میرے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ وارڈ میں وہ پہلا مکمل، نیا کمیونٹی سنٹر تھا جس کی میں نے ایڈمرین اور ریجنل کونسلر کے طور پر نمائندگی کی تھی، اور میں نے ابتدائی طور پر ایک رنگ اور کمیونٹی روم کے ساتھ ایک سادہ سی "ایک روایتی" سہولت گاہ کے اصل ڈیزائن کو ایک کمیونٹی پول کے ساتھ 4 رنگ کی سہولت گاہ بمعہ ایک چم اور لائبریری تک بڑھانے کی کامیابی سے وکالت کی تھی۔ اس اعزاز کے لیے میں میئر اور کونسل کی تہ دل سے مشکور ہوں۔"

- سوسن فینل، سابق میئر، سٹی آف برامپٹن

"یہ بات اہم ہے کہ ہم ایسے افراد کی خدمات کا اعتراف کریں جنہوں نے سٹی آف برامپٹن کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہمیں اس اہم مرکز کا نام باضابطہ طور پر سوسن فینل اسپورٹس پلکس رکھنے پر خوشی ہے۔ اشاروں اور علامات کی تجدید کا کام جاری ہے اور ہم اس کی تکمیل کے منتظر ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جاننے کے لیے ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)